

لبنانی فسادات اور خطے کا مستقبل

عبدالغفار عزیز

لیبیا کا صدر عرب حکمرانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا: 'ہمیں اس ہال کی چار دیواری کے علاوہ اور کوئی چیز اکٹھا کرنے والی نہیں بچی، افسوس ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مخاصمت رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہیں، دوسرے کو بچھنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں..... نتیجہ یہ ہے کہ عربوں کی عزت خاک میں مل چکی ہے، عربوں کا وجود قصہ پارینہ بن گیا ہے، ان کا ماضی..... ان کا مستقبل، سب ختم ہو چکا ہے۔'

صدر قذافی کے عقیدے، نظریات، سیاست اور حکمت عملی سے بہت سے اختلافات کیے جاسکتے ہیں۔ اپنے شہریوں کی آزادیاں سلب کر لینے اور امریکا سے دشمنی کے دعووں کے بعد اچانک اس کے سامنے ڈھیر ہو جانے کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے، لیکن دو ماہ قبل ۳۰ مارچ کو شام کے دارالحکومت دمشق میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس سے ان کا یہ خطاب عالم عرب کی بالکل درست تصویر کشی کرتا ہے۔ گذشتہ ماہ، یعنی مئی ۲۰۰۸ء کو سرزمین اقصیٰ پر یہودیوں کے قبضے کو ۶۰ سال پورے ہو گئے۔ عین اس وقت کہ جب فلسطین پر قابض صہیونی ریاست اپنا ۶۰ سالہ جشن منا رہی تھی، عالم اسلام فتنہ و فساد اور ہلاکت و خون ریزی کی نئی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ صومالیہ، چینیا، کشمیر، افغانستان، عراق اور فلسطین تو پہلے ہی خاک و خون کی نذر تھے، صرف عراق پر امریکی قبضے کے بعد سے اب تک ۱۰ لاکھ، جی ہاں ۱۰ لاکھ سے زائد بے گناہ موت کے گھاٹ اُتارے جا چکے ہیں

لیکن مئی میں دو مزید مسلمان ملکوں میں خانہ جنگی برپا کر دی گئی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کی سڑکوں پر حزب اللہ اور حکومتی جماعتوں کے درمیان گولیوں، مارٹر گولوں اور آتش زدگی کی وارداتوں کا تبادلہ ہوا اور سوڈان کے دارالحکومت خرطوم اور اس کے جڑواں شہر اُم درمان پر دارفور کے مسلمان باغی گروہ نے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دھاوا بول دیا اور سیکڑوں افراد کو زندگی سے محروم کر دیا۔

حزب اللہ ہمیشہ سے صہیونی و امریکی حملوں کا نشانہ رہی ہے، لیکن ۲۰۰۰ء میں اس کی مزاحمت و جہاد سے مجبور ہو کر جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوجوں کے انخلا اور ۲۰۰۶ء میں تمام تر امریکی و اسرائیلی مہلک اسلحے سے لڑی جانے والی جنگ میں اس سے شکست کھا جانے کے بعد حزب اللہ اور اس کی عسکری طاقت خاص طور پر ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ اس لیے اب ایک طرف تو اسے اس کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر مہیب پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی عسکری قوت کو سنی ممالک و عوام کے لیے خطرے کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس سے اسلحہ چھین لینے کے لیے عالمی و علاقائی اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے اور لبنانی حکومت کے درمیان سا لہا سال پر محیط ہمہ پہلو کش مکش شروع کرادی گئی ہے۔ مئی ۲۰۰۸ء کو اس کش مکش کا ایک المناک مظاہرہ بیروت کی سڑکوں پر کیا گیا۔

لبنان نمایاں طور پر مختلف مذاہب اور قومیتوں میں بٹا ہوا ملک ہے۔ اس تنوع نے ملک کو کئی بار سنگین خانہ جنگی کے شعلوں کی نذر بھی کیا ہے۔ خاص طور پر ۱۹۸۵ء سے لے کر ۱۹۸۸ء تک کی خانہ جنگی نے 'لبنانائزیشن' کو اندرونی خلفشار و تباہی کے لیے ضرب المثل بنا دیا۔ لیکن بالآخر سعودی عرب کے شہر طائف میں امریکا و شام کے تعاون سے ہونے والے معاہدہ طائف پر اتفاق رائے نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ اس اتفاق رائے کے نتیجے میں لبنان کا صدر ہمیشہ مارونی مسیحی، وزیراعظم سنی مسلم، اسمبلی کا اسپیکر شیعہ مسلم، ڈپٹی اسپیکر آرتھوڈکس مسیحی اور ارکان پارلیمنٹ آدھے مسیحی اور آدھے مسلمان ہوتے ہیں۔ حالیہ سیاسی تقسیم کے نتیجے میں ملک دو بڑے کیمپوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک جانب مسیحی صدر (جس کا دوبارہ انتخاب التوا کا شکار ہے) شیعہ اسپیکر (تحریک امل، حزب اللہ) اور بعض چھوٹے دھڑے ہیں جو اب اپوزیشن کہلاتے ہیں۔ دوسری طرف سنی وزیراعظم

(حریری)، درزی رہنما ولید جبلاط اور بعض دیگر چھوٹے گروہ ہیں۔ حکومتی دھڑ امریکی حلیف سمجھا جاتا ہے اور اپوزیشن شام اور ایران کے زیر اثر گردانی جاتی ہے۔ اپوزیشن شکوہ کرتی ہے کہ حکومت امریکا اور اسرائیل کے اشاروں پر چلتے ہوئے حزب اللہ کی طاقت و مزاحمت کا خاتمہ چاہتی ہے اور حکومت الزام لگاتی ہے کہ حزب اللہ یہاں ایران اور شام کا تسلط چاہتی ہے اور ان کے مفادات کی محافظ ہے۔

اس تناظر میں ماہ رواں کے اوائل میں حکومت کے دو حساس فیصلوں نے جلتی پرتیل کا کام کیا: ایک تو بیروت ایئرپورٹ پر سیکورٹی کے سربراہ کو جو حزب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے منصب سے ہٹانے کا اور دوسرے، حزب اللہ کے نجی مواصلاتی نظام کو ختم کرنے کا۔ ایئرپورٹ سیکورٹی کے سربراہ پر الزام لگایا گیا کہ وہ یہاں خفیہ کیمروں کے ذریعے جاسوسی کرتا ہے اور مواصلاتی نظام کے بارے میں کہا گیا کہ اسے اپنی عسکری ضرورتوں سے کہیں وسیع تر کر لیا گیا ہے اور حزب اللہ اپنے آپ کو ریاست کے اندر الگ ریاست سمجھتی ہے۔

اپوزیشن کی طرف سے یہ دونوں فیصلے مسترد کرنے اور مئی کو ان کے خلاف ہڑتال اور پُر امن احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ لیکن بد قسمتی سے جیسے ہی دن کا آغاز ہوا بیروت کے مختلف علاقوں میں آگ اور خون کا کھیل شروع ہو گیا۔ احتجاج کو باقاعدہ عسکری جھڑپوں میں تبدیل کر دیا گیا تو حزب کا پلہ بھاری رہنا بدیہی تھا۔ اس کے افراد نے تیزی سے بیروت میں پیش قدمی شروع کر دی اور پھر دو روز کے اندر اندر اسی تیزی سے اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ اس کے ذمہ داران نے اعلان کیا کہ ہمارے پُر امن احتجاج کو ایک سازش کی بنیاد پر مسلح جھڑپوں میں تبدیل کر دیا گیا، ہم نے مجبوراً دفاعی اقدامات کیے اور صورت حال قابو میں آتے ہی عسکری مظاہر ختم کر دیے۔ حکومتی کیمپ کا کہنا ہے کہ مسلح کارروائیوں کا آغاز حزب کی طرف سے کیا گیا اور حکومت کی طرف سے جوانی کارروائی کی گئی، نیز یہ کہ حزب اللہ عالمی دباؤ سے خوف زدہ ہو کر پسپا ہو گئی۔ اگرچہ طرفین ۲۲ مئی کو قطر کے دار الحکومت دوحہ میں ایک صلح و معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں لیکن دونوں طرف سے الزامات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر آنے والے ماہ و ایام میں دوحہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو یہ یقیناً ۶۰ سالہ جشن فتح منانے والے صہیونیوں اور ان کے عالمی سرپرستوں کے سوا کسی کے

لیے خیر و مسرت کا باعث نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی لبنان کے سربراہ فیصل المولاوی نے بھی اپنے بیانات میں اسی موقف کا اعادہ کیا ہے۔ انھوں نے فریقین میں سے کسی کو بھی بیروت کے المناک واقعات سے بری الذمہ قرار نہیں دیا۔ حزب اللہ کو بھی خبردار کیا کہ وہ اپنا اسلحہ اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف استعمال کر کے دشمن کے پچھائے جال میں نہ پھنسنے لیکن ساتھ ہی حزب اللہ کی عسکری قوت اور اسلحے کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس اسلحے کا استعمال صرف ایک ہی رہنے دینا چاہیے اور وہ ہے صہیونی قبضے کے خلاف مزاحمت۔

بیروت کے حالیہ واقعات کو کئی مغربی اور صہیونی مبصرین نے ایران سے جوڑتے ہوئے خطے کے ممالک کو اس کی توسیع پذیر طاقت سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی عرب سرکاری ذرائع ابلاغ بھی اس مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ علاقے کی حکومتوں اور عوام کو ڈرایا اور باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے۔ ایران نے صدام کے بعد عراق میں قائم شیعہ حکومت، شام کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات اور لبنان میں حزب اللہ کی ناقابل یقین عسکری طاقت کے ذریعے خطے میں ایک شیعہ ہلال تشکیل دے لیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے مشکل وقت میں حماس کی مالی امداد کر کے اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اس طرح وہ ایک تشدد پسند، ریڈیکل اسلام کو ترویج دیتے ہوئے پورے خطے پر قبضہ جمانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بعض صہیونی تجزیہ نگاروں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ایرانی حکومت بیروت میں حزب اللہ کی کارروائیوں کی طرح حماس کی عسکری طاقت کو بھی فلسطین کے اندر اور باہر استعمال کر سکتی ہے۔ وہ غزہ کے بعد عالمی سرحدیں اور رخ کا پھانگ پامال کرتے ہوئے مصر میں انقلاب کے لیے کوشاں ہو سکتی ہے۔ مصر میں موجود اخوان المسلمون اندر سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہاں ایران دوست اسلامی انقلاب برپا کر دیا جائے گا۔

صہیونی وزیر خارجہ سیبی لیفنی نے بیان دیا: ”اصل تنازع عربوں اور یہودیوں کے درمیان نہیں، اعتدال پسند روشن خیالوں اور شدت پسندوں کے درمیان ہے“۔ معروف اسرائیلی روزنامے ہاآرتس میں ۲۴ مئی کو عکینا الدار نامی تجزیہ نگار دہائی دیتا ہے: ”اب یہ امر لبنانیوں، فلسطینیوں، اردنیوں، مصریوں اور سعودیوں کے مابین قدر مشترک ہے..... حقیقت پسند حکمران، ریڈیکل اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ ریڈیکل عناصر شیعہ ہوں یا سنی، اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کا خون بہا کر

خوشی سے رقص کرتے ہیں۔ ۲۰۰۶ء کے موسم گرما (حزب اللہ اسرائیل لڑائی) کے بعد سے ان کا یہ خوف شدید تر ہو گیا ہے۔“

معروف دانش ور رابرٹ فسک نے اگرچہ بیروت کے واقعات کا تجزیہ اس طرح کیا ہے کہ: ”یہ واقعات امریکا کے لیے مزید ذلت اور ایران کی ایک اور جیت ہیں۔“ انھوں نے ۱۲ مئی کو برطانوی اخبار انڈی پنڈنٹ میں شائع اپنے مضمون میں اس لڑائی کو ”مشرق وسطیٰ میں جاری امریکا مخالف لڑائی کا حصہ“ قرار دیا ہے جس میں امریکا اور اس کے حواریوں کو شکست در شکست ہو رہی ہے، لیکن عملاً انھوں نے بھی اس جنگ میں امریکی ہدف کی نشان دہی کی ہے۔ اس ہدف کے بارے میں بدنام زمانہ ’موساؤ‘ کے سابق سربراہ افرایم ہلینی ۲۰ مئی کے اسرائیلی روزنامے دیدیوت احرونوت میں لکھتا ہے: ”امریکا کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایران پر بڑھتے ہوئے دباؤ میں مزید اضافہ کرے۔ اقتصادی اور مالیاتی دباؤ سے لے کر خطے میں عسکری قوت جمع کرنے اور اسے استعمال کرنے کی دھمکیوں تک ہر ممکن دباؤ..... صرف اسی دباؤ کے نتیجے میں ہی ایران کو مذاکرات کی میز تک لایا جاسکتا ہے۔“ پھر لکھتا ہے: ”اگر امریکا اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ہمیں مزید خبردار رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مذاکرات کی میز پر ہماری (اسرائیل کی) کوئی جگہ ہی نہ رکھی جائے..... ہمارے لیے یہ امر فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔“

اس صہیونی بلاشیری اور خطے میں حالیہ امریکی عسکری نقل و حرکت کا جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ بش صاحب اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے پہلے ایران پر بلہ بولنے کی حماقت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ عالم عرب کے بڑے روزنامے الشرق الاوسط کے مطابق مئی کے پہلے ۲۰ روز میں ۱۹ جنگی جہازوں نے نہر سوئز عبور کی۔ یہ آمدورفت ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس سے قبل اتنے مختصر عرصے کے دوران میں اتنے جنگی جہاز خطے میں نہیں آئے۔ عراق میں اعتراف شکست، امریکی فوجیوں کے زمین بوس مورال اور جنگ کی صورت میں ایران کی طرف سے امریکا و اسرائیل کو برابر کا جواب دینے کے اعلانات ایران پر حملے کے صہیونی ارادوں کی تکمیل کی راہ میں حائل ہیں۔

ایران سمیت ہر خطرے کے خلاف عالمی صف بندی اور باقاعدہ حملوں کے لیے صہیونی عناصر کی بے تابی تو باسانی سمجھ آ جانے والی حقیقت ہے، لیکن سمجھ سے بالاتر بات یہ ہے کہ خود

عرب اور مسلم ممالک اپنے ازلی وابدی دشمن کے ساتھ پیار کی پینگیلیں بڑھانے کے لیے کیوں مرے جا رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور سرزمین اقصیٰ پر ۶۰ سالہ قبضے کا جشن منانے کے لیے (واضح رہے کہ فلسطین سے برطانوی انتداب ۱۴ مئی ۱۹۴۸ء کو ختم ہوا۔ اسی روز پہلے صہیونی وزیراعظم ڈیوڈ بن گوریون نے قیام اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے الفاظ تھے: ”ہم طے کرتے ہیں کہ آج رات عبرانی سال ۵۷۰۸ء کے مطابق ۶ مئی اور عیسوی سال ۱۹۴۸ء کے مطابق ۱۵ مئی کو جس لمحے برطانوی انتداب اختتام پذیر ہوگا، اقوام متحدہ کی قرارداد (۱۸۱-۲۹ نومبر ۱۹۴۷ء) کی روشنی میں اور اپنے فطری و تاریخی حق کی بنیاد پر، سرزمین اسرائیل پر ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کرتے ہیں)، بش سمیت ۴۰ عالمی شخصیات ۱۴ مئی کو تل ابیب پہنچیں اور ۱۵ مئی کو صہیونی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہش اعلان کرے کہ اسرائیلی خود کو صرف سات ملین نہ سمجھیں، ہم اور آپ مل کر ۳۰ ملین ہیں اور اپنے مشترک دشمن کے خلاف شانہ بشانہ و یک جان ہیں۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ مصر جیسے اہم مسلمان ملک نے اس موقع پر ناجائز صہیونی ریاست کو ۱۱ ارب مکعب میٹر سالانہ کی مقدار میں قدرتی گیس کی فراہمی کیوں شروع کر دی۔ کویتی ہفت روزہ المجتمع اور دیگر رپورٹوں کے مطابق یکم مئی سے اسرائیلی ریاست کو یہ گیس ناقابل بیان حد تک کم قیمت میں فروخت کی جا رہی ہے۔ جس گیس کی قیمت اس وقت عالمی منڈی میں ساڑھے نو ڈالر فی یونٹ ہے وہ اسرائیل کو ایک ڈالر سے بھی کم، یعنی صرف ۵۷ سنت فی یونٹ میں فراہم کی جا رہی ہے۔ جون سے اس کی مقدار بڑھا کر ۱۱ ارب مکعب میٹر سالانہ کر دی جائے گی اور یہ تریسیل آئندہ ۲۰ سال تک جاری رکھی جائے گی۔

قرآن کریم جن کے بارے میں انبیاء کے قاتل ہونے اور مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے آگے بڑھے ہونے کی خبر دیتا ہے، ان کے ساتھ سخاوت و فیاضی کا یہ مظاہرہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے کہ جب اس نے مصری حدود سے متصل غزہ کی پٹی میں ۱۵ لاکھ فلسطینیوں کو محصور کر رکھا ہے۔ انھیں زندگی کی ہر ضرورت سے محروم کر رکھا ہے۔ بجلی، پٹرول اور گیس تو کجا، پینے کے لیے پانی اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہر دانہ گندم پر روک لگا رکھی ہے۔ شام، جو خود صہیونی جارحیت کا نشانہ بن چکا ہے اور جس کی وادی جولان اب بھی مقبوضہ ہے، عین انھی دنوں ان اسرائیلی خبروں کی تصدیق کر رہا ہے کہ: ”ترکی کی وساطت سے شام اسرائیل مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں

اور یہ مذاکراتی عمل جاری رہے گا۔ ایک اسرائیلی وزیر نے بیان دیا ہے کہ صہیونی وزیراعظم اولمرٹ نے گذشتہ عرصے میں شامی صدر بشار الاسد کو اس مضمون کے ۲۰ پیغام بھیجے ہیں کہ ایران، حزب اللہ اور حماس سے ناتا توڑ لو، ہم تمہارے سارے دلدر دُور کر دیں گے۔ مسلمان ممالک کے اکثر حکمرانوں کی اس فراست و دانائی پر حیرت و تأسف اور اناللہ..... پڑھ لینے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ حکمران اپنے اقتدار کے لیے امریکی خدا کی رضا جوئی اور امریکی دل جوئی کے لیے 'سگِ لیلیٰ' کی بلائیں لینا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔

دوسری جانب خود اسرائیلیوں کو دیکھیں تو ان کے روزنامے ییدیعت احرونوت کے تازہ سروے کے مطابق ان کی صرف چار فی صد آبادی صہیونی ریاست میں سکون سے رہنا ممکن سمجھتی ہے۔ ۵۲ فی صد نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت یہاں سے کوچ کر سکتے ہیں۔ ۳۰ فی صد نے کہا کہ ہمیں اپنا صہیونی ہونا باعث عار و شرم لگتا ہے۔ ۲۲ فی صد نے اقرار کیا کہ صہیونی ریاست بتدریج زوال و فنا کی طرف جا رہی ہے۔

۳۰ اپریل کو دوحہ میں علامہ یوسف قرضاوی سے ملاقات کے لیے چوٹی کے تین برطانوی یہودی ربی ان کے گھر آئے، انھوں نے اعتراف کیا کہ "صہیونی ریاست پوری دنیا کے لیے شرکا باعث ہے۔" انھوں نے تسلیم کیا کہ "اس ریاست کا وجود تورات کی تعلیمات کے منافی اور یہودیوں کے لیے تباہی کا باعث ہے۔" اہارون کوہن، اسرائیل ڈوڈ وِس اور ڈوڈ شلومو وِلڈمین نامی ان تینوں مذہبی رہنماؤں کا شمار تورات کے بزرگ اساتذہ میں ہوتا ہے اور انھیں 'ربانی یہود' کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "تورات کے حقائق اور دو ہزار سالہ یہودی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اسرائیلی ریاست کو بالآخر نیست و نابود ہونا ہے۔"

کیا صہیونی ریاست کے ظالم بھیڑیوں، ان کے ہاتھوں یرنمال بننے امریکا اور اس کے سامنے سجدہ ریز مسلم حکمرانوں کو اس گواہی کے بعد بھی کوئی اور گواہی درکار ہے؟